

کورونا وائرس

گھر پر تنہائی - کورونا وائرس قرنطین

آپ اپنے آپکو بیمار محسوس کر رہے ہیں؟



کیا آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطے میں ہیں جس کو کورونا وائرس ہے؟



کیا آپ نے اپنی چھٹی کسی ایسے ملک میں گزاری ہے جہاں بہت سے لوگوں کو کورونا وائرس ہے؟



گھر پر رہیں۔



ٹیسٹ کروائیں۔




کیا آپ کو کورونا وائرس نہیں ہے؟ قرنطین کے معلومات پڑھیں



کیا آپ کو کورونا وائرس ہے؟ گھر پر تنہائی کے معلومات پڑھیں

کورونا وائرس گھر پر تہائی

آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے
آپ کو کورونا وائرس ہے



اب آپ بیمار ہیں۔

آپ ابھی بیمار نہیں ہیں۔ آپ اب بھی بیمار ہوسکتے ہیں

سات دن گھر پر رہیں۔



کیا آپ ابھی بھی بیمار ہیں یا آپ سات دن کے بعد بیمار ہوجاتے
ہیں؟ جب تک آپ صحتیاب نہ ہوں گھر میں ہی رہیں۔



کیا آپ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں؟
اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔



کیا آپ کو ہسپتال جانا ہے؟
پہلے ہسپتال فون کریں - انہیں بتائیں کہ آپ کو کورونا وائرس ہے۔
وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔



کورونا وائرس گھر پر تہائی

آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے...



آپ اپنے باغ میں یا اپنے گھر کی
چھت پر بیٹھ سکتے ہیں




باہر نہ جائیں



آپ کسی سے نہیں مل سکتے



دوسرے لوگوں کو اپنے گھر
میں داخل ہونے نہ دیں



ہر روز جو چھوتے ہیں
اسے صاف کریں



کھڑکیاں کھولیں



کورونا وائرس گھر پر تہائی

מה עליך לעשות...




اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں
سے دور رہیں



اگر ممکن ہو تو اپنے گھر میں رہنے
والے لوگوں سے مختلف ٹوائلٹ
استعمال کریں



اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں
کے علاوہ دوسری چیزیں استعمال
کریں



اگر ممکن ہو تو آپ کے گھر میں رہنے
والے لوگوں سے ایک مختلف کمرہ استعمال
کریں



اگر ممکن ہو تو اپنے گھر میں رہنے والے
لوگوں سے مختلف باتھ روم کا استعمال کریں



ڪورونا وائرس گهر پرتهائي

انتباہ



اگر آپ قوانین پر عمل نہیں
کرتے ہیں تو ، آپ کو جرمانہ
یا سزا دی جاسکتی ہے۔

